

الحمد لله

1. **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** ۝ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ [الفاتحة:1]

2. **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ** ۝ [سبا:1]

تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور آخرت میں (بھی) اسی کے لیے تعریف ہے اس حال میں کہ وہ بہت حکمت والا، بہت خبر رکھنے والا ہے۔

3. **فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** ۝ [الحاثیة:36,37]

بس اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور اسی کے لیے ہی آسمانوں اور زمین میں بڑائی ہے اور وہ نہایت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔

4. **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمَّ الصَّالِحَاتُ** . [سنن ابن ماجہ:3803]

سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کے فضل و انعام سے تمام نیک کام انجام پاتے ہیں۔

5. **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ** . ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے۔ [سنن ابن ماجہ:3803]

6. **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى** .

سب تعریف اللہ کے لیے ہے! جس میں بہت زیادہ، پاکیزہ بہت بابرکت تعریف۔ (یہ تعریف) اسی طرح مبارک جس طرح ہمارا رب پسند کرتا ہے اور وہ راضی ہوتا ہے۔ [سنن ابی داؤد:773]

7. **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ مَا خَلَقَ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ كُلِّ شَيْءٍ** .

اللہ کی تعریف اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اللہ کی تعریف جس سے اس کی مخلوق بھر جائیں، اللہ کی تعریف ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے، اللہ کی تعریف ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا، اللہ کی تعریف اس پر جو اس کی کتاب نے شمار کیا، اللہ کی تعریف ہر چیز کی گنتی کے برابر اور اللہ کی تعریف جس سے ہر چیز بھر جائے۔ [صحیح الجامع الصغیر و زیادہ:2615]

8. اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَاليك يَرْجِعُ الامرُ كُلُّهُ. [صحیح الترغیب و الترهیب: 1576]

اے اللہ! تیرے ہی لیے سب تعریف ہے اور تیری ہی طرف سب کام لوٹتے ہیں۔

9. اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَوَاتِ وَمِلءَ الْاَرْضِ وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ

بَعْدُ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا

الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. [صحیح مسلم: 1058]

اے اللہ! اے ہمارے رب! تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں اور زمین بھر جائے اور اس کے بعد ہر وہ چیز جسے تو چاہے کہ وہ بھر جائے۔ (تو) تعریف اور بزرگی کے لائق ہے جو تو نے عطا فرمایا اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو نے روک لیا اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں اور کسی صاحبِ حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔

10. اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قِيَمُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ

لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ

وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ

الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ

وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. [صحیح البخاری: 1120]

اے اللہ! ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے۔ تیرے ہی لیے تعریف ہے، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں پر حکومت تیرے ہی لیے ہے۔ تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو آسمانوں اور زمین اور ان کا نور ہے۔ تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے۔ تیری ہی تعریف ہے، تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری ملاقات برحق ہے، تیری بات سچی ہے، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، تمام نبی سچے ہیں، محمد ﷺ سچے ہیں اور قیامت برحق ہے۔

11. اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ اَللّٰهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَلَا مُقْرِبَ لِمَا بَاعَدْتَ

وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا

مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ النِّعِمَ الْمُقِيمَ

الَّذِيْ لَا يَحْوُلُ وَلَا يَزُولُ. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ النِّعِمَ يَوْمَ الْعِيْلَةِ وَالْاَمْنِ يَوْمَ

الْحَرْبِ اَللّٰهُمَّ عَائِدًا بِكَ مِنْ سُوءِ مَا اَعْطَيْتَنَا وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ مِنَّا. [الأدب المفرد: 699]

اے اللہ! ساری کی ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے، اے اللہ! جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں، جو تو دور کر دے تو کوئی اسے نزدیک کرنے والا نہیں، جسے تو نزدیک کر دے تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، جس سے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں اور جسے تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اے اللہ! ہم پر اپنی برکات، اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے رزق کو پھیلا دے۔ اے اللہ! بے شک میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہیں نہ (تیری اطاعت میں) حائل ہوں اور نہ زائل ہوں۔ اے اللہ! بے شک میں تجھ سے تنگی کے دن نعمت اور جنگ کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! تیری پناہ میں آتے ہوئے اس چیز کی برائی سے جو تو نے ہمیں عطا کی اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی۔

12. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّكَ لَكَ الْحَمْدُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْمَنَّانُ، بِدِیْعِ السَّمَاوَاتِ

وَالْاَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ! يَا حُمٰی! يَا قَیُّوْمُ! اِنِّیْ اَسْأَلُكَ. [سنن النسائی: 1300]

اے اللہ! بے شک میں تجھ سے اس وجہ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے لیے ہی ساری تعریف ہے! تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں! احسان کرنے والے! آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والے! اے بزرگی و عزت والے! اے زندہ! اے قائم رہنے والے! بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔

13. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ

وَ جَمِیْعِ سَخَطِكَ. [صحیح مسلم: 6943]

اے اللہ! بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے، تیری عافیت کے پلٹنے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہونے سے اور تیری تمام ناراضگیوں سے۔

14. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ

وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَیْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰی نَفْسِكَ.

اے اللہ! میں تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں۔ میں تجھ سے (ڈر کر) تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثابیان کی ہے۔ [صحیح مسلم: 1090]

15. رَبِّ اَعِنِّیْ عَلٰی ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحَسْنَ عِبَادَتِكَ. [سنن النسائی: 1304]

اے اللہ! اپنا ذکر کرنے، اپنا شکر کرنے اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما۔

16. رَبِّ اَعِنِّیْ وَلَا تُعِنْ عَلَیَّ، وَانْصُرْنِیْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَیَّ، وَامْكُرْ لِیْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَیَّ،

وَ اِهْدِنِیْ وَیَسِّرْهُدَایَ اِلَیَّ، وَانْصُرْنِیْ عَلٰی مَنْ بَغٰی عَلَیَّ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ لَكَ

شَاكِرًا، لَكَ ذَاكِرًا، لَكَ رَاهِبًا، لَكَ مِطْوَاعًا، اِلَیْكَ مُحِبًّا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِیْ

وَ اغْسِلْ حَوْبَتِیْ وَ اَجِبْ دَعْوَتِیْ وَ ثَبِّتْ حُجَّتِیْ وَ اِهْدِ قَلْبِیْ وَ سَدِّدْ لِسَانِیْ وَ اسْأَلْ

سَخِیْمَةَ قَلْبِیْ. [سنن ابی داؤد: 1510]

اے میرے رب! میری مدد فرما اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر، میری نصرت فرما اور میرے خلاف کسی کی نصرت نہ کر۔ میرے حق میں تدبیر فرما اور میرے خلاف تدبیر نہ کر۔ مجھے ہدایت دے اور میری ہدایت کو میرے لیے آسان فرما دے۔ جو میرے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اے اللہ! مجھے اپنا شکر کرنے والا، اپنا ذکر کرنے والا، تجھی سے ڈرنے والا، تیرا فرماں بردار اور تیری طرف بہت ہی تواضع کرنے والا بنا دے۔ اے میرے رب! میری توبہ قبول کر لے، میرے گناہوں کو دھو ڈال، میری دعا قبول فرما، میری حجت قائم فرما دے، میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان کو حق پر قائم رکھ اور میرے دل کے میل کچیل (بغض، حسد اور کینہ وغیرہ) کو نکال دے۔

17. رَبَّنَا أَصْلِحْ بَيْنَنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ الْإِسْلَامِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ،
وَاصْرِفْ عَنَّا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا
وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ،
وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَائِلِينَ بِهَا وَآتِمِّمْهَا عَلَيْنَا. [الأدب المفرد: 630]

اے ہمارے رب! ہمارے درمیان اصلاح فرما، ہمیں اسلام کے راستوں پر چلا اور ہمیں اندھیوں سے روشنی کی طرف نجات دے دے۔ ہم سے ظاہری و باطنی بے حیائیوں کو پھیر دے اور ہمارے لیے ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں، ہمارے دلوں، ہمارے ازواج اور ہماری اولادوں میں برکت عطا فرما، ہماری توبہ قبول فرما کیونکہ توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا، اس کی تعریف کرنے والا بنا، اس کا قائل (زبان سے بیان کرنے والا) بنا دے اور ان کو ہم پر مکمل فرما۔

18. سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. [صحیح مسلم: 6847]

پاک ہے اللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔

19. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ [الطَّه: 182-180]

آپ کا رب (جو) عزت کا رب ہے ہر اس چیز سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اور سلام ہو رسولوں پر! اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

April 22 | E1-P12

الہدی پبلی کیشنز (پرائیوٹ) لمیٹڈ

7-اے کے بروہی روڈ 4/11-H اسلام آباد، پاکستان +92-51-4866150-1 +92-51-4866125-9

کراچی: +92-21-35844041 لاہور: +92-42-35239040-1

www.alhudapublications.org | www.alhudapk.com

www.farhathashmi.com



05010098

